


بسم الله الرحمن الرحيم



فَوْ جُوكَ هَصْنِي
أَكْشَفَ بِعَوْنَكَ كَرْبَلَي
أَسْعَفَ بِلَطْفَكَ لَغَيْنِي
وَلَقَنِي أَحْبَنِي
أَبْكِيكَ مَوْلَايِ الحَسِينِ افْرِيكَ مَوْلَايِ الحَسِينِ
مَوْلَايِ مَوْلَايِ الحَسِينِ





فُلُكُ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَاء
 مُلُكُ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَاء
 نُسْكُ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَاء
 مِسْكُ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَاء
 أَبِيكِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

مملوک آل محمد یہ امیریتیہ نامطلع ما ایم عرض کیدی چھے
 حسین نو سفینۃ کربلاہ پہنچو چھے لئے کربلاہ ما حسین یہ شہادہ
 اختیار کری نے اسفینۃ نے - ہمیشہ واسطے جاری کیدو چھے ،
 تبعد ایم عرض کیدی
 حسین نا مُلک یہ کربلاہ ما عجب شان دکاوی چھے ، جد کربلاہ نا واقعہ
 ناسب حسین نو مُلک ، امامۃ نو مُلک - ہمیشہ باقی چھے ،
 تبعد ایم لکھوک
 حسین یہ کربلاہ ما عجب انداز ما عبادۃ کیدی ،
 جد عبادۃ ناسب خدا نی عبادۃ کرنار قیامۃ نادن لگ عبادۃ کرسے ،
 حسین یہ کربلاہ ما وہ شان سی کستوری گویی لئے پوتانا اصحاب لئے
 اهل بیت نے لگاوی کدیہ کستوری نی خوشبو اج بھی مہکی رہی چھے ،
 تبعد مملوک آل محمد یہ حسین نے عرض کیدی
 لے مارا مولی حسین ! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیس ،
 لے مارا مولی حسین ! میں ہمیشہ آپ پر فداء تھاتور ہیس ،
 لے مارا مولی لے مارا مولی حسین !



امام حَقٌّ يَا حُسَيْنٌ
 مقَام صَدِيقٍ يَا حُسَيْنٌ
 كِتَاب نُطْقٍ يَا حُسَيْنٌ
 لُبَاب خَلْقٍ يَا حُسَيْنٌ
 أَبْكِيَكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْرِيَكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

۲ - ۵۲
 حسین امام نے خطاب کرتا ہوا عرض کروں چھوں:
 لے حق نا امام لے حسین! لے صدق نا مقام لے حسین!
 لے کتاب اللہ الناطق لے حسین! لے لبِ اللباب،
 لے تمام عالم نا خلاصہ لے حسین!
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیں،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر فداء تھاتور ہیں،
لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!
 ا مثل رووا فی ذکر لئے فداء تھا وابی ذکر مملوک آل محمد یہ هریت ما
 کیدی چھے، کیم کہ ا مرثیہ نی غرض یعنی چھے کہ
 میں حسین پر روئی لؤں،
 روئی روئی نے فداء تھئی جاؤں،
 لئے "یا حسین" "یا حسین" پکارتور ہوں،
 مؤمنین فی جماعت! هریت ما جد وقت کہ مملوک آل محمد
 "انگیک مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ" نا جملہ پڑھوں تو وقت مارا ساتھے پڑھو،



صَفْوَ الْعَلِيٍّ يَا حُسَيْنَ

سِبْطَ النَّبِيِّ يَا حُسَيْنَ

جَلَّ الْوَصْبِيِّ يَا حُسَيْنَ

كَهْفَ الْوَلِيِّ يَا حُسَيْنَ

أَبْكِيَكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنَ أَفْدِيَكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنَ

مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنَ

لے خدا نا صفوہ _____ لے حسین!

لے رسول اللہ نانو اسرے _____ لے حسین!

لے امیر المؤمنین نا شہزادہ _____ لے حسین!

لے محبت کرنا رنا بھلا سہارا _____ لے حسین!

لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیں،

لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر فداء تھاتو رہیں،

لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!



قُرَّةَ عَيْنِ فَاطِمَةَ
 مُطْلِعَ عَيْنِ دَائِمَةَ
 مُبْصِرَ عَيْنِ سَاجِدَةَ
 فَاقِعَ عَيْنِ ظَالِمَةَ
 أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

لَهُ فَاطِمَةَ فِي أَنْكَهْ فِي مُنْذِكْ!
 لَهُ هَمِيشَ نَا سُورَجَ نَا أَكَاؤْنَارِ!
 لَهُ أَبْ پَرْ أَنْسُوْ هَمَوْنَارَ أَنْكَهْ بَصِيرَةَ نَا عَطَاءَ كَرَنَارِ!
 لَهُ ظَالِمَ أَنْكَهْ نَا هَمَوْنَارِ! ظَلْمَ نَمَلَوْنَارِ!
 لَهُ مَارَا مَوْلَى حَسَيْنِ! مَيْنَ هَمِيشَ أَبْ پَرْ رُوتَرَهِيَسِ،
 لَهُ مَارَا مَوْلَى حَسَيْنِ! مَيْنَ هَمِيشَ أَبْ پَرْ فَلَاءَ تَهَاوَرَهِيَسِ،
 لَهُ مَارَا مَوْلَى لَهُ مَارَا مَوْلَى حَسَيْنِ!



لَيَنْقَضِيَ لَهُ فِي عَلَيْكَ
لَيَنْهَايِ شَوْقِ إِلَيْكَ
مَوْلَايِ رَجُوايَ لَدَيْكَ
عَبْدُكَ ذَابِيَنَ يَدِيْكَ

أَبِيكِيَّكَ مَوْلَايِ الْحُسَيْنُ أَفْدِيَكَ مَوْلَايِ الْحُسَيْنُ
مَوْلَايِ مَوْلَايِ الْحُسَيْنُ

لے حسین!

اپ پر مارو پستاؤ هرگز تمام نہیں تھائی،

اپ نی طرف مارو شوق کوئی وقت ختم نہیں تھائی،

لے مارا مولی!

ماری امیدو اپ نا نزدیک عرض کروں چھوں

اپ داتا رچھو،

اپ نوبندہ اپ نا نزدیک آیو چھے،

اپ نا دربار ما حاضر تھیو چھے،

اپ نی انکھو نا سامنے چھے،

لے مولی حسین! ابندہ روئی رہیو چھے، فلاء تھئی رہیو چھے،

لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتورہیں،

لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر فلاں تھاتورہیں،

لے مارا مولی! لے مارا مولی حسین!

٦

اَهْ غَرِيبُ كَرْبَلَا
فِي كَرْبَلَةِ وَفِي بَلَا
عَطْشَانَ فِي حَرَّ الْمَلَأَ
يَهُوَ مَا تَحَمَّلَ

أَبِيكِيَّكَ مَوْلَايَ الْحَسَينِ أَفْدِيَكَ مَوْلَايَ الْحَسَينِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحَسَينِ

اَهْ! عَجَبٌ مَارُوْپَسْتَاؤْ چَهِ،
عَجَبٌ مَنْ درَدَ چَهِ
كَدْ كَرِبَلَاءُ نَاهِرِ دِيْسِيِّ حَسِينِ
كَرِبَلَاءُ مَا— كَرْبَلَاءُ مَا چَهِ،
گَرْمٌ صَحْرَاءُ مَاتِيَّنَ دَنْ نَاهِرِيَّا سَاهِ،
مَغَرْ— حَسِينِ كَيْوَا مَولَى چَهِ؟
كَدْ خَلَانِيَ خَوشِيَ وَاسْطَهُ سَكْلِيَ مَصِيبَتُهُ أَهْمَاوِيَ رَهِيَا چَهِ،
سَوْنَ أَمْثَلُ نَاهِرِيَ مَولَى مَلَهِ چَهِ؟
سَوْنَ أَمْثَلُ نَاهِرِيَ مَولَى مَلَهِ چَهِ؟
يَهُ مَولَى پَرْمِينَ كَيْمَ نَهْرَوْئِ؟ كَيْمَ فَلَاءُ نَهْتَهَوْئِ؟
لَهُ مَارَا مَولَى حَسِينِ! مَيْنَ هَمِيشَهُ أَبَ پَرْرُوتُورِهِيَسِ،
لَهُ مَارَا مَولَى حَسِينِ! مَيْنَ هَمِيشَهُ أَبَ پَرْفَلَاءُ تَهَا توْرِهِيَسِ،
لَهُ مَارَا مَولَى لَهُ مَارَا مَولَى حَسِينِ!



تحقيقاً

علوۃ کرنا ر دشمنو یہ

حسین نے دشمنی کری نے
مکر کری نے
کید کری نے
خدا تعالیٰ نے بے فرمائی کری نے
اپ نے قتل کیا،
لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد اپ پر روتور ہیس،
لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد اپ پر فلاں ھاتو رہیس،
لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!

إِنَّ الْعِدَى الْمُعَانِدِينَ
قَدْ قَتَلُواهُ عَاءِنِدِينَ
وَمَا يَكِرِينَ كَائِدِينَ
لِرَبِّهِمْ مُضَادِدِينَ
أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنَ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنَ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنَ



يَارِتِ ذَا الْأَيْدِي الْحَزِيلِ
الْعَنْهُمُ اللَّعْنُ الْوَيْلِ
وَأَخْرِي الْحَزِيلِ الطَّوِيلِ
لَا تُبْقِي مِنْهُمْ أَيَّ جِيلٍ

أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ اَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

لے پروردگار!

لے ذو القوة المتنين!

ید سکلا دشمنو نے لعن ویل سی لعنة کرجے،
لنے ید سکلا نے خزی طویل سی خوار کرجے،
ید سکلا دشمنو ما سی
کوئی ایک جیل بھی باقی نہ رکھے،
لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد آپ پر روتھیں،
لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد آپ پر فلاء تھاتورھیں،
لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!



اَبِكِيْهِ دَابَا فَادِيَا
اَرْثِيْهِ حُزْنَا شَادِيَا
وَبِاسِمِهِ مُنَادِيَا
لِرُؤْضِ خُلْدِ جَادِيَا

اَبِكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ اَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

میں ہمیشہ

حسین پر فَلَاءُ ھاتا ہوا روتور ہیس لئے
حُزْنَ کرتا ہوا مرثیہ نی تلاوة کرتور ہیس،

باوجی صاحب نامرثیہ

يَا سَيِّدَ الشَّهَدَاءِ نِي تلاوة کرتور ہیس
لئے "يَا حسین" "يَا حسین" نی نلاء دیتور ہیس
لئے مولیٰ حسین سی
جنتہ ناکیارہ نے طلب کرتور ہیس،
رسول اللہ فرمائے چے

مَنْ كَانَ أَفْنَى أَقْتَلَ أَعْلَمَ وَلَدَ الْحُسَيْنِ وَجَبَتْ لِلْجَنَّةِ

لئے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیس،
لئے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر فَلَاءُ ھاتور ہیس،
لئے مارا مولیٰ لئے مارا مولیٰ حسین!



لے مارا دین نافرزندو مؤمنین!
مارا ساتھے روئی لو، روئی لو،
 جه شخص امصيبة ما جہ پوشیده حقائق نے سمجھے چھے
 یہ خوب روئے چھے،
 لند جد وقت رلاؤنار داعی ایم فرمائے چھے کہ
روئی لو، روئی لو،
 توجواب دئی نے روئے چھے،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیں،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ آپ پر فداء تھا تو رہیں،
لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!

ابْكُوا بَنِي الدِّينِ مَعِي
 يَبْكِيهُ كُلُّ مَنْ يَعِي
 لِسَرَرِتِهِ الْوَعِي
 إِلَى الْبُكَاءِ إِذْ دُعِي
أَبْكِنِكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِنِكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

نہ بعد مملوک آل محمد یہ حسین نا اصحاب نی تقاضی یاد کری نے
ایم عرض کیدی چھ کہ
عجب و فادار حسین نا اصحاب نا اپر

میں روؤں چھوٹوں

کہ جو سگلا روشن، کرام نے اتنی قیاء چھ،
یہ سگلا امام حسین پر فلاء تھئی نے — اپ نے خوش کیدا
لئے یہ سگلا حسین نا احسان دیکھی نے — عجب خوش تھیا
لئے اپ نا دشمنوں نے علاوہ کری نے
یہ سگلا ناساتھے جنگ کری نے
امام حسین پر فلاء تھیا،

لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتور ہیں،
لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ اپ پر فلاء تھا تو رہیں،
لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!



يَا الْهَفَّ صَحِّبُ أَوْفِيَاء
غُرِّ كِرَامٍ اتَّقِيَاء
سَرُّوا الْحُسَيْنَ أَرْضِيَاء
عَادُوا عِدَاهُ الْأَدِيعَاء
أَبْكِيَكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيَكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ



لَهُنَّ فِي عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدٍ
 مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمُحَيْدٍ
 فِي فَضْلِهِ كُلُّ فَرِيدٍ
 فَدَاهُ بِالْعَزْمِ الْوَطِيدِ
 أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ

نہ بعد اہل بیت نے یاد کری نے عرض کروں چھوں
 عجب مارو پستاؤ اہل بیت ناہر شہید پر چھے
 کہ جہ ماسی ہر ایک
 فضل ما ایکتا چھے،
 لذ عزم مُصمم سی
 حسین امام پر فلاء تھیا،
 ارے! عاشوراء نادن بے پر ما
 فاطمة نا گھر ما اخبارے جنازۃ نکلا!
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیس،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ آپ پر فلاء تھاتور ہیس،
 لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!



مولاتنا زینب نا بے خزادہ عون و محفل نا
 شہادتی ذکر کیدی چھے کہ
 جدیوے
 حسین نا تزدیک رزا لیوانے ایا لئے حسین رزا نہیں اپتا،
 تو یوے نے
 پوتانا مال صاحبۃ زینب نا فضل لئے مدد سی
 امام حسین فی رزا مبارک ملي گئی
 لئے یوے ید شہادت نا فضل نے حاصل کری لیدو،
 کیوی طرح کہ وہ مولی پر فداء تھئی نے کہ
 جد مولی حسین پر عالم فداء تھائے چھے،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیں،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ آپ پر فداء تھائور ہیں،
لئے مارا مولی لئے مارا مولی حسین!

محفلٌ کَذَّاكَ عَوْنَ
 بِفَضْلِ زَيْنَبِ وَعَوْنَ
 نَالَا بِإِذْنِ كُلِّ بَوْنَ
 وَفَدَّيَا مَفْدِيَيْ كَوْنَ
 أَبِكِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ



وَقَاسِمٌ بَحْلُ الْحَسَن
يُشْرِقُ كَالْبَدْرِ الْحَسَن
إِنْصَرِ عَمَّهُ اطْمَانٌ
أَرْضُ أَبَاهُ ذَا الْمَنَّ
أَبِيكَ مَوْلَايَ الْحَسَينِ أَفَدِيكَ مَوْلَايَ الْحَسَينِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحَسَينِ

امام حسن نا شہزادہ قاسم
کد جہ چند رہما نی مثل چمکتا تھا،
عاشراء نادن اپ نا کا کاجی صاحب حسین نے
یاری دئی نے مطمئن تھیا،
کیوی طرح کہ
امام حسین پر پوتانا ماتھا نے — نثار کری دیدو،
تو یقیناً
اپ نا باواجی صاحب امام حسن نے
خوش کری لیا،
لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد اپ پر روتور ہیس،
لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد اپ پر فداء تھاتور ہیس،
لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!

عجب مارو پستاڑوہ دولہانا اوپر
 کہ جد امام حسن فی چھنی لئی نے آیا
 لئے آپ نا مولیٰ حسین نا قدم مبارک چومی نے
 رزا طلب کیدی،

جد مالکو تھو
 "لے بیٹا! امام حسین پر فلاء تھئی جاجو" ،
 حسن امام فی وصیة مطابق حسین یہ
 عاشوراء نادن اهنگام ما
 اپ فی ذکری سکینہ ساتھے شادی کری اپی
 لئے دولہا شہید تھئی گیا،
 لئے پوتانا عزیۃ لئے ارادۃ سی سکینہ حاصل کیدی،
 لئے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیں،
 لئے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر فلاء تھا تو رہیں،
لئے مارا مولیٰ لئے مارا مولیٰ حسین!



يَا الْهُفَّتَاعَلَى الْعَرَوْسِ
 جَاءَ بِأَحْسَنِ الظُّرُوسِ
 وَرَجُلٌ مَوْلَاهٍ يَبْوُسِ
 نَالَ السَّكِينَةَ بِالنُّفُوسِ
 أَبِكِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ أَفْدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ



امام حسین ناعباس او پر عجب
 مارو آه چھے، پستا چھے،
 جد عباس پوتانا حملہ ما شیری میں مثل تھا،
 سقاءِ حرم تھا،
 کہ جرنی مشکی نافضل سی
 اج لگ پانی پلاوی رہیا چھے،
 عجب عباس قوتہ ناصاحب چھے،
 لئے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد اپ پر روتور ہیس،
 لئے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد اپ پر فلاء تھاتور ہیس،
لئے مارا مولیٰ لئے مارا مولیٰ حسین!

اَهْ عَلَى عَبَاسِهِ
 كَضَيْغَمْ فِي بَاسِهِ
 يَسْتَقِي بِفَضْلِ كَاسِهِ
 إِنَّمَّا مِنْ مَرَاسِهِ
أَبِكِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

جد عباس - حسین نال شکر نا عالم بردار تما
 اپ پانی لیوانے سدھارا،
 ولتی وقت بنے ہاٹھ کنایو نے خون مارنگائی گیا،
 حسین نے ایم پکاروا لاگا

لے مولیٰ حسین! اپ نا غلام نے پرمای لو!
 حسین شتایی پدھارا،

دیکھ چھے سوں کہ

عباس - زمین پر گرا چھے،
 تو حسین یہ کمر پکڑی لیدی،

عباس نی شہادت سی حسین نی کمر خم تھئی گئی،

لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتور ہیس،

لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ اپ پر فلاء تھا تو رہیس،

لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!



لَحِيَشَهُ حَمَلَ اللِّوَاءَ
 وَمَضَى لِيَأْتِينَ بِمَاءَ
 ضَرِّجَ عَوْدًا بِاللِّمَاءَ
 فَصَاحَ "أَدْرِكْ" بِالنِّدَاءَ
أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ



اُوچھے علیٰ اکبرنا واسطے!
 کہ جمپوتانا بلند اواز سی نداء کری رهیا چھے،
 "انا علیٰ بنُ الحسینِ بن علیٰ"
 تَخْنُّنْ وَيَتَّبِعُ اللَّهُ أَوْلَى بِالثَّبَّیِ
 أَضْرِیْکُمْ بِالسَّیْفِ أَخْبِیْ عنْ أَیِّ
 تَالَّهِ لَا يَحْکُمُ فِیْنَا ابْنُ الدَّعِیِّ.
 میں علیٰ نا شہزادہ حسین نو فرزند علیٰ ہوں،
 دشمنو!
 میں تئے تلوار سی ماریں،
 مارا باوجی صاحب نی حماۃ میں کریں،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد آپ پر روتور ہیں،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد آپ پر فلاء تھاتور ہیں،
 لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!

اٰه لَاكْبَرِ عَلِيٰ
 نَادِي بِصَوْتِهِ الْعَلِيٰ
 اِنْهِيْ وَاللَّهُ عَلِيٰ
 اِبْنُ الْحُسَيْنِ بْن عَلِيٰ
 اِبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ اَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ



لِلّهِ قَوْلُهُ الْعَطَش
 إِذْخُوَمُولَاهُ عَطَش
 بِمَصِّهِ اللِّسَانَ لَش
 عَنْ سِرِّخَاتِمْ نَقَش
 أَبِكِيَّكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفِدِيَّكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

على اکبر یہ شان سی جہاد کیدی
 لئے پیاس لاگی تو "العطش" فی عجب نلاء کیدی،
 حسین نا نزدیک "العطش العطش" کہتا ہوا شتایی آیا،
 امام حسین یہ علی اکبر نے پوتا نی زبان چوساوی
 تو اہنا سی علی اکبر خوش تھئی گیا،
 لئے نبی نی خاتم آپی نے
 ایک مھٹو سر ظاہر کری دیدو،
 علی اکبر برقھی کھائی نے شہید تھیا،
 امام حسین تشریف لا یا
 لئے پنجتن نا دیدار کراوی دیدا،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتور ہیں،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر فلاء تھا تو رہیں،
لئے مارا مولی لئے مارا مولی حسین!



يَا الْعَلِيِّ أَصْغَرِ
طِفْلٍ بِشَانٍ أَكْبَرِ
فِي يَدِ شَمْسٍ مُشْتَرِيٍّ
مَضِيٌّ لِيَوْمِ الْمُحْشَرِ
أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

عجب علی اصغر نی شان چھے
جد چھوٹا شہزادہ چھے
مگر شان ما گنا بلند چھے،
اماما ناسور ج ناھاتہ ما قیامہ نا مشتری موکایا،
کہ جد مشتری قیامہ نادن واسطے سدهاری گیا،
لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتھیں،
لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر فداء تھا تو رہیں:
لے مارا مولی! لے مارا مولی حسین!



ایک بدجنت دشمن یہ
امام حسین نا اچھوٹا معصوم شہزادہ پر تیر ساندھو،
علی اصغر نا گلاما تیر لاؤگو،
لنے اهاسی خون نافوارہ نکلا،

عجب یہ خون نی
خدا نا نزدیک کرامۃ لہ عزة چھ،
امام حسین یہ۔ یہ خون نے اسمان پر چینکو،
اسمان یہ خون نے جھیلی لیدو،
ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرو،
لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتور ہیں،
لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ اپ پر فداء تھا تو رہیں،
لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!

ضد رمی لشومہ
سہماً على مقصومہ
فقار من حلقومہ
ماعز في مدمومہ
آبکیک مولای الحسین افدنیک مولای الحسین
مولای مولای الحسین



عجب امام حسین نو صبر چے
 کہ آپ یہ پوتانی تلوار نا میان سی

 چھوٹی قبر کھودی،
 لئے آپ نا بلند لئے بھلا شہزادہ
 علی اصغر نے قبر مادفن کیا،
 حسین نی گود خالی تھئی گئی!

 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیں،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر فلاء تھاتور ہیں،
 لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!

يَا الْحُسَيْنِ إِذْ صَرَّ
 بِغَمْدٍ سَيْفِهِ حَفَرَ
 قَبْرًا صَغِيرًا فَسَرَّ
 عَلِيهِ الْأَعْلَى الْأَبَرَ

 أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ



يَاسَاعَةَ الْحُسْنِ الْعَتِيدِ
 بَيْنَ الْعِدَى الْمَوْلَى وَحِيدٌ
 يَسْتَقْبِلُ الْعَوْنَانِ الْأَكِيدُ
 يُرِيدُ مَا اللَّهُ يُرِيدُ
أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسْنِينَ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسْنِينَ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسْنِينَ

تَرَبَّعَ سَيِّدُ الشَّهَادَةِ حُسْنِي فِي ذَكْرِ مَا يَمِّ عَرَضَ كُرُونِ چُونِ
 لَهُ وَهُوَ قِيَامَةٌ فِي هُرْيٍ كَهْ جَهْزِي مَا
 دَشْمُونَ نَارِ غَدَ مَا مَوْلَى حُسْنِي تَنِ تَهَا چَهَ،
 اِيكَ وَقْتَ مَدِينَة طَرَفَ،
 اِيكَ وَقْتَ نَجْفَ اِشْرَفَ طَرَفَ نَظَرَ فَهَمَوْيَ چَهَ،
 رَسُولُ اللَّهِ لَهُ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سِي
 مَدَدَ طَلَبَ كَرَهَ چَهَ،
 حُسْنِي كُونَ چَهَ؟
 كَهْ جَهْ خَدَا اِرَادَةَ كَرَهَ چَهَ
 يَحْ حُسْنِي اِرَادَةَ كَرِي رَهِيَا چَهَ،
 لَهُ مَارا مَوْلَى حُسْنِي! مَيْنَ هَمِيشَهُ اَپَ پَرَرُوتَرَهِيَسَ،
 لَهُ مَارا مَوْلَى حُسْنِي! مَيْنَ هَمِيشَهُ اَپَ پَرَفَلَاءَ تَهَا تَهِيَسَ،
لَهُ مَارا مَوْلَى لَهُ مَارا مَوْلَى حُسْنِي!



عجب مارو آه چھ!

حسین حرم نے وداع راستے خیمة ما پدھارا لئے فرمایو

لے مارا اہل بیت کرام!

تارا ہر ایک پر

فاطمۃ نافرزند حسین نو آخری سلام!

لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیں،

لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر فلاں تھاتور ہیں،

لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!

اہ آٹھِ الْخَيَام

مُؤْدِعًا قَالَ الْإِمَام

عَلَيْكُمْ أَهْلِي الْكِرَام

مِنْ بَنْجُلِ فَاطِمَ السَّلَام

أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ



تَوْحِيدُ مَرْأَسِ زَيْنِهِ
 بِالْتَّصِّفِ تُورَّعِينِهِ
 أَوْصَاهُ عِنْدَ بَيْنِهِ
 بِعَيْنِهِ وَغَيْنِهِ
 أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

حسین یہ اپ نا شہزادہ
 اپ نا انکھو نا نور — علی زین العابدین نے
 نص نو تاج پہنایو
 لئے فراغی نانزدیک گھنی و صیتو فرمائی
 لئے ایم اشارہ فرمایو کہ
 علی زین العابدین فی نسل ما
 ایک بعد ایک امام قائم تھا سے
 تاکہ قائم علی ذکرہ السلام قائم تھا سے،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتور ہیں،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ اپ پر فلاء تھا تو رہیں،
لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!



ذَاقَ الْحِمَامَ رَاضِيَا
 دَيْنَ الْقِصَاصِ قَاضِيَا
 فِيمَا أَرَادَ مَاضِيَا
 أَغْمَدَ سَيْفًا نَاضِيَا
أَبْكِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ أَفْدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ

اه! امام حسین موت ناگونٹ نے چاہکوا واسطے
 خلائی خوشی مطابق خوش تھئی گیا
 لئے حسین یہ قصاصات نادین نے اداء کری دیدو،
 جو اپ نوارادہ ہوت پورو کیدو،
 لئے اپ نی تلوار۔ ذو الفقار نے میان ماکیدی
 کہ جد جوش ماتھی،
 امام حسین جوش ماتھا — جد جوش نے کون قابو کری سکے؟
 مگر جبریل یہ عرض کیدی کہ
 خلائی خوشی اہماچے کہا پ شہادۃ اختیار کری لو،
 تو اپ یہ تلوار میان ماکیدی،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشد اپ پر روتور ہیس،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشد اپ پر فداء تھاتور ہیس،
لئے مارا مولی لئے مارا مولی حسین!



گوڑا پرسی، ذی الجناح پرسی

اسمان نا چمکتا ستارہ اہستہ زمین پراترا،
کہ جد امام نا اعلیٰ مقام پر
هزارو ستارو دلالة کرے چھے
کیم کہ استارہ یہ هزارو تارو نے اگایا چھے،
لئے اگاوی رہیا چھے،
لئے مارا مولیٰ حسین! میں ہیشہ آپ پر روتورہیس،
لئے مارا مولیٰ حسین! میں ہیشہ آپ پر فلاء تما تو رہیس،
لئے مارا مولیٰ لئے مارا مولیٰ حسین!

مِنْ ذِي الْجَنَاحِ قَدْ نَزَلَ
بِخُمُّ السَّمَاوَاتِ بِالْمُهَلَّ
عَلَىٰ مَقَامِهِ الْأَجَلَ
الْأَفُكُوكَبِ تَدْلُلٍ
أَبِكِيكَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ أَفِدِيكَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ



اپ ناھوڑا عجب شان ناچھے،
 کہ جد خدمتہ کروی تھی ترکیدی،
 پوتانا اعتقاد مطابق
 بال نے حسین ناخون مارنگی دیلا،
 کہ جد اهنا واسطے بھلو زادچھے،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد اپ پر روتورہیس،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد اپ پر فداء تھاتورہیس،
 لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!

بِاللّٰهِ مِنْ جَوَادٍ
 يَخْضُعُ فِي مُرَادٍ
 يَخْضُبُ لِاعْتِقَادٍ
 بِدَمٍ مِّهْ لِزَادٍ
 أَبِكِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَينُ أَفِدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَينُ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَينُ



آتِي الْخِيَامَ هَكَذَا
 وَفِي الصَّهِيلِ أَخَذَلَ
 وَاهْلَ بَيْتِ بَحَبَذَا
 فَالْقَوْلُ مِنْهُ نَفَذَا
أَبِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ افْدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

امثال حسین ناگھوڑا خون مارنگایا ہوا
 خیمه نی طرف آیا،
 لئے ہنہناہٹ کرو لاگا،
 جرناسبب اهل بیت نے بلایا
 لئے پوتانی زبان سی جد کھو تو تکھی دیدو،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتورھیس،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر فلاء تھاتورھیس،
 لئے مارا مولی لئے مارا مولی حسین!



حرم سگلا — خیمه ماسی با هرنکلی آیا که
 گوڑا چھے مگر شد سوار کہاں چھے؟
 چو طرف دیکھوا لاگا
 کہ گوڑا چھے مگر شد سوار کہاں چھے؟
 زور زور سی پکاروا لاگا
 کہ گوڑا چھے مگر شد سوار کہاں چھے؟
 آه! عجب درد سی نوحہ کرو لاگا
 کہ گوڑا چھے مگر شد سوار کہاں چھے؟
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتور ہیس،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر فلائے تھاتور ہیس،
 لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!

رَاحُوا فَإِنَّ الْفَارِسَ
 لَأَحُوا وَإِنَّ الْفَارِسَ
 صَاحُوا وَإِنَّ الْفَارِسَ
 تَاحُوا وَإِنَّ الْفَارِسَ
 أَبِكِيَّكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيَكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

اہ! اہ! ثم اہ!

حسین ایک کھوری ناجھاڑنے ٹیکو دئی نے بیٹھا چھے
لئے دشمنو چو طرف سی ایک ساتھ ملی نے
حملہ کری رہیا چھے،
کوئی بھالو مارے چھے!
کوئی تلوار مارے چھے!
کوئی تیر مارے چھے!
امثل دشمنو بھلا تیر لئے تلوار نوبارش ورساوی رہیا چھے،
لئے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیں،
لئے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر فداء تما تو رہیں،
لئے مارا مولیٰ لئے مارا مولیٰ حسین!



جَلَسَ الْحُسَيْنُ بِخَلَةٍ
وَسَطَا الْعَدَلَةُ بِخَلَةٍ
وَأَمْطَرُوهُ بِخَلَةٍ
رُمْحٌ وَسَيْفٌ نَصْلَةٍ
أَبِكِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفِدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ



جُرّحَ مِنْ وَقْعِ الْجَحَرِ
 اٰهِ جَبِيلَهُ الْأَغَرِ
 حَمَرَ وَجْهَهُ الْقَمَرِ
 يَلْقَى بِهِ خَيْرَ الْبَشَرِ
 أَبِيكِيَّكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِينِكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

اٰهِ ثُمَّ اٰهِ! ایک پھر حسین فی روشن پیشانی پر لاؤ،
 جد ناسب
 اپ فی پیشانی زخی تھئی گئی لئے اہما سی خون نکلو،
 حسین یہ - ید خون نے چہرہ پر ملی لیدو،
 جد چہرہ چندر ما فی مثل تمو
 لئے فرمایو
 امثل مارا جد رسول اللہ خیر البشر نے
 خون ما رنگایو ہوو ملیس،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشد اپ پر روتورہیس،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشد اپ پر فلاء تھاتورہیس،
 لئے مارا مولی لئے مارا مولی حسین!

اہ! دشمن لعین شمرنی کتنی سخت جراہ کدیر
 مارا مولیٰ حسین - خدا نا امین نے ٹھوکر مارے چھے،
 کونے ٹھوکر مارے چھے؟

ارے جہ قرآن ناطق چھے،
 اظلم پر ہمیشدہ میں اہ وزاری کرتورہیس،
 ذرا خیال کرو کہ
 لعین شمرنا پاؤں کیوا خنزیرنی مثل
 لنے حسین ناشبیح کافوری کیوا
 کہ جرماسی جنة نی خوشبو میک،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشدہ اپ پر روتورہیس،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشدہ اپ پر فلاء تھاتورہیس،
لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!



يَا جُرْأَةَ الصِّدِّلِ اللَّعِينُ
 يَرْفُسُ مَوْلَايَ الْأَمِينُ
 مَنْ هُوَ لِلَّهِ كَرْالَقَرِينُ
 اَهِ وَاهِ كُلُّ حِينُ
 أَبِكِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنُ أَفْدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنُ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنُ

اه! ماروسانس رکی کیم نہ جائے؟
 ارے مارا ہوش بجا کیم رہے؟
 جد وقت کہ میں خیال کروں چھوں کہ
 ظلم کری نے بھاؤٹی — ناپاک شمر
 امام حسین نا۔ پاک سینہ پر سوار تھیو،
 مؤمن نو دل کیم نہ هلی جائے؟
 انکھوں کیم روں نہ تھئی جائے؟
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتور ہیں،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر فلاء تھاتور ہیں،
لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!



اَهِ يَقِيْضُ بِي النَّفَسِ
 يَرْزُوْلُ مِتَّيْ كُلُّ حِسْ
 اَذْ بِالشَّقَاءِ قَدْ جَلَسَ
 نَحْسُ عَلَى صَدْمِ قَدْسٍ
 اَبِكِيْكَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ اَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ



اَهِيْخَنْجَرِكَلِيل
 حُلْقُومَمَوْلَايَالْجَلِيل
 يَضْرِبُهُالنَّذُلُ الرَّذِيل
 لَمْ يَمْضِ مِنْ سِرِّالْجَلِيل
 أَبِكِيكَمَوْلَايَالْحَسَينِ أَفْدِيكَمَوْلَايَالْحَسَينِ
 مَوْلَايَمَوْلَايَالْحَسَينِ

آه! لعین شمر - یہ نیچولنے ہلکو چھے،
 تمام خبائش لئی نے آیو چھے،
 مارا مولی جلالۃ ناصاحب
 حسین نا حلقوم مبارک پر
 بُوہُو خنجر پھراوی رہیو چھے،
 مگر یہ خنجر خدا نا سیر عظیم نا سبب چلتون تھی،
 حسین یہ شمر نے فرمایو
 یہاں تارو خنجر نہیں چلے
 ا تو رسول اللہ نی بو سہ گاہ چھے،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد اپ پر رو تو رہیس،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد اپ پر فلاء تھا تو رہیس،
 لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!



قَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ قُمْ
 فَلَمْ يَجِدْ بِمَا حَكَمْ
 بُدُّلًا وَقَامَ مَنْ ظَلَمْ
 وَخَابَ فِيمَا قَدْ عَزَمْ

 أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

امام حسین یہ لعین شمر نے فرمایو کہ تو اُنھ،
 شمر ظالم نے اُنھوں پرو،
 اہنو جرد ارادہ ہتو اہما نا کامیاب تھیو،
 اہنے ایم ارادہ تھو — سوں ارادہ تھو؟ کہ
 امام حسین نے حلقوم سی ذبح کرے مگر نہ کری سکو،
 جیم حسین چاہے چھے تم تھئی رہیو چھے،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتورہیس،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر فلاء تھاتورہیس،
 لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!



احسین کون چھے؟
کہ جو مہات نا زدیک
اپ نا باوجی صاحب علی المرتضی حیدر کرار
نی مثل ظاهر تھیا

لن هدایہ فی حمایۃ کیدی
لن دشمن نا ناک نے چھوری نا کھو،
کیم کہ
اپ یہ اپ نا ارادہ مطابق
آخری سجدۃ دئی دیدو،
شیطان یہ واویلا پکاری لیدو،
لن مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتھیں،
لن مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر فداء تھا تو رہیں،
لن مارا مولی لن مارا مولی حسین!

لَدَى الْمِهَمَّاتِ بَدَا
كَحِيدَرِ يَحْمِي الْمُهْدِي
أَرْعَمَ أَنْفَ مَنْ عَدَ
سَجَدَةً إِذْ سَجَدَ
أَبِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ أَفْدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ



عجب وہ سجدة نی عظمة چھ،
جد سجدة نے امام حسین یہ عصری وقت دیدو،
جد حسین نے دعاء کروی تھی
تدعاء — کری دیدی،
جد حسین یہ وعدہ کیدو تو
توفاء — کری دیدو،
لے آپ یہ شہادۃ نارتہ نے حاصل کری لیدو،
لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتورہیں،
لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشہ آپ پر فلاء تھاتورہیں،
لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!

يَا سَجْدَةً سَجَدَ الْحُسَيْنُ
وَدَعَاهُمَا قَصَدَ الْحُسَيْنُ
وَرَفِيْهِمَا وَعَدَ الْحُسَيْنُ
وَشَهَادَةً وَجَدَ الْحُسَيْنُ
أَبْكِنَكَ مَوْلَائِيَ الْحُسَيْنُ أَفْدِيلَكَ مَوْلَائِيَ الْحُسَيْنُ
مَوْلَائِيَ مَوْلَائِيَ الْحُسَيْنُ



حسین یہ اپ نا جد رسول اللہ نا وعدہ نے وفاء کیدو،
 اپ یہ اخوان الصفاء نے فداء کری دیدا
 لئے اخیر ما ظلم کرنا یہ ظلم کری نے
 اپ نا ماتھا مبارک نے قفاسی جدو کری دیدو،
 یا حسین! یا حسین!
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتور ہیں،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر فداء تھا تو رہیں،
 لئے مارا مولی لئے مارا مولی حسین!

بِوَعْدِ جَلِيلٍ وَفِي
 فَدْلٍ يَا خُوانِ الصَّفَا
 وَرَأْسَهُ مِنَ الْقَفَا
 قَدْ جَرَّظُلُمًا مَنْ جَفَا
 أَبِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ أَفِدِيكَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَينِ



کئی طرح زینب یہ۔ شہادت نانزدیک دیکھو ہے کہ
 حسین ماری طرف نظر فرمادی رہیا چھے
 کہ میں حسین نی طرف دیکھی رہی چھوں!
 اپ کئی حالہ ما چھے؟
 خون مارنگایا ہوا چھے،
 لئے اپ ناما تھانے دشمن جدو کری رہیو چھے،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشدہ اپ پر روتھیں،
 لئے مارا مولی حسین! میں ہمیشدہ اپ پر فداء تھاتھیں،
 لئے مارا مولی لئے مارا مولی حسین!

كَيْفَ رَأَتُهُ زَيْنَبَ
 وَهُوَ يَرَاهَا تَرْقُبَ
 بِدِمَّهِ مُخَضَّبَ
 وَالرَّأْسُ مِنْهُ يُشْطَبَ
 أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

اسکلو دیکی نے اسکلو سنی نے
زمین ما زلزلہ کیم نہ اورے؟

ارے سورج نے حزن نا سبب
گرہن کیم نہ لائے؟

چاند نے غم نا سبب

گرہن کیم نہ لائے؟

دران حال کہ

قوہ ناصاحب نے دشمنو یہ ضعیف کری دیلا چھے،

لے مؤمنین! تمنے روؤ کیم نہ اورے؟

یا حسین!

لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ آپ پر روتھیں،

لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ آپ پر فلاء تھاتھیں،

لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!



لِمْ لَا الْأَرَضِيُّ تَرْجُفُ
وَالشَّمْسُ حُزْنًا تَكْسِفُ
وَالْبَدْرُ غَمًّا يَخْسِفُ
ذُوقَةً يُسْتَضْعَفُ
أَبِكِيَّكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفِدِيَّكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ



اه و حسین ناروشن جسم مبارک واسطے
 کر جدمولی نو جسم کربلاع نی زمین ماگرو هو و چھے،
 دشمنو ظلم کری نے
 ید جسم مبارک نے
 گوزانا پاؤں سی کنڈیلے چھے،
 تو ید جسم مبارک—ہر جانب سی زخی چھے،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد آپ پر روتور ہیس،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد آپ پر فلاء تھاتور ہیس،
 لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!

اَه لِحِسْمِهِ الصَّدِيقِ
 فِي أَرْضِ كَرْبَلَا طَرِيقِ
 بِأَرْجُلِ الظُّلْمِ الْقَدِيرِ
 مِنْ كُلِّ وِجْهَةٍ جَرِيقِ
 أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ



بِاللّٰهِ رَأْسُ قَدْعَلَا
 بِرَأْسِ رُمْحٍ قَدْعَلَا
 سُوْرَةَ كَهْفٍ قَدْ تَلَا
 وَكُلَّ سِرِّ قَدْ جَلَا
 أَبِكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفِدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

عجب بلند حسين نا رأس مبارك
 که جد بھلا نی نوک پر بلند تھیا ،
 ید رأس مبارک بھلا نی نوک پر
سورة الکھف نی تلاوة کرے چھ ،
 یہ سورۃ نی تلاوة سی ہر سر نے ظاہر کری دیدو ،
 لئے دعوۃ الستر پر دلالۃ کری دیدی ،
 لئے مارا مولی حسین ! میں ہمیشہ اپ پر روتور ہیں ،
 لئے مارا مولی حسین ! میں ہمیشہ اپ پر فداء تھاتور ہیں ،
لئے مارا مولی لئے مارا مولی حسین !



يَا الْهَفَّةَا لِلشَّيْلَاتِ
ظُلْمًا وَسَلْبًا نَادِيَاتِ
بَيْنَ الْأَعْادِيِّ حَاسِرَاتِ
بِيَاهُسَيْنَا صَارِخَاتِ
أَبِكِيَّكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفِدِيَّكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

عجب مارو پستاؤ
وہ سیدلات واسطے چھے

جدنا اوپر ظلم کرواما اوابے چھے،

جر سگلانی چادرو،

والیو چھینی لیوا ما اوابے چھے،

جر سگلانو حکم کری رهیا چھے،

دشمنو نادر میان گھلے سرچھے،

لنزی سگلا

"یا حسین" "یا حسین"

کھی نے پکاری رهیا چھے،

مائتم کری رهیا چھے،

لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد آپ پر روتور ہیس،

لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد آپ پر فداء تھاتور ہیس،

لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!



يَهُوْلِنِي حَالُ الْحَرَم
ظُلْمٌ أَحَاطَ وَالظُّلْمُ
بِهِمْ بِلَا الْحُسَيْنِ هُمْ
وَاحْرَقْتُ لَهُمْ خَيْرَم

أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

لے عزادارو!
امام حسین فی شہادہ نا بعد حرم نوسوں حالہ چھے؟
ید یاد کری نے عرض کروں چھوں
منے حرم فی حالہ کمپارو کراوے چھے،
ید سگلا پر
ایک طرف ظلم تھئی رہیو چھے
لن رات اندهاری تھئی رہی چھے
لن بیجی طرف — حسین تھی
لن خیسڑ جلاوا ما اوی رہیا چھے،
لن مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتورہیس،
لن مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر فداء تھاتورہیس،
لن مارا مولی لے مارا مولی حسین!

لے عاشوراً عنا دن!

تمارا عصری حزن دار گھڑی ما
اہل بیت نا چھوٹا چھوٹا شہزادہ تو بے سہارا تھئی گیا،
مولیٰ حسین تھی،

سکینہ عرض کرے چھ لے باوجی صاحب اپ کھاں چھو؟
اپنی اپنی آئیں آئتا ॥ یا ابتا لم بنتا
نسینت ہنی ی بنتا ॥ خدنی معاخینٹ کننا
فلاء عش فی الثنائی ॥ والہنقتا یا حسینتا
یا سپتہ الشہداء

لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد اپ پر روتور ہیس،
لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد اپ پر فلاء تھاتور ہیس،

لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!



يَا يَوْمَ عَاشُورَا الْمُبِين
أَطْفَالُ بَيْتٍ مُسْتَبِين
فِي وَقْتٍ عَصْرٍ الْحَزِينُ
قَدْ أَصْبَحُوا بِلَامُعِينٍ

أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحَسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحَسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحَسَيْنِ

تبعد مملوك آل محمد
 عاشوراء نادن نے خطاب کری نے کھوں چھوں:
لے عاشوراء نادن!
 جدتیں دیکھو ترکئی طرح دیکھو؟
 جو تین شخص ہوتا
 تو حسین پر فلاء تھئی جاتا،
 یا کہ تین پانی نا چشمہ ہوتا
 تو حرم نا پیاساونے پانی پلاوی دیتے،
کاش کہ میں بھی تمara ساتھے ہو تو
لے فلاء تھئی جاتو! فلاء تھئی جاتو!
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر روتورہیس،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشہ اپ پر فلاء ٹھاتورہیس،
لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!



كَيْفَ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ
 لَوْكُنْتَ شَخْصًا لِفَرَيْدَتْ
 أَوْكُنْتَ عَيْنًا لِسَقَيْتْ
 يَا لَيْتَ كُنْتُ مَعْكَ لَيْتْ
أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

تہ بعد امام حسین نے خطاب کری نے عرض کروں چھوں
لے مارا مولیٰ حسین!

میں اپ نے ہمیشد یاد کروں چھوں،
اپ نافضل نو ہمیشد شکر کروں چھوں،
اپ جد امر فرمائیں تو واسطے حاضر چھوں،
اپ منے حکم کریئے،
کیم کہ اپ مولیٰ چھو، حکم کرنا رچھو،
میں فلاں تھانار چھوں،
لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد اپ پر روتورہیں،
لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد اپ پر فلاں تھاتورہیں،
لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!



مَوْلَايَ إِنِّي ذَاكِرٌ
فَضْلَكَ دَابِبا شَاكِرٌ
فِيمَا أَمْرَتَ حَاضِرٌ
فَأَمْرُ رَفَانْتَ الْأَمْرَ
أَبْكِيَكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيَكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ



اِنِّی بِبَابِکَ وَاقِفٌ
 عَمْرِی لِغَلَّکَ وَاقِفٌ
 وَبِالْيَقِینِ عَارِفٌ
 مِنْ کَوْثَرِ لَغَارِفٌ
 اَبِکِیکَ مَوْلَایِ الْحُسَینِ اَفْدِیکَ مَوْلَایِ الْحُسَینِ
 مَوْلَایِ مَوْلَایِ الْحُسَینِ

لے مولی حسین!
 تحقیق میں آپ نادر پر کھڑو ہو چھوں،
 آپ ناغم واسطے ماری عمر نے وقف کیدی چھے،
 میں یقیناً جانوں چھوں کہ
 آپ پر روتئی نے، فداء تھئی نے
 آپ ناکوثر ناجام سی کھو بلہ بھرنار — میں چھوں،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد آپ پر روتورہیں،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشد آپ پر فداء تھاتورہیں،
 لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!



لے مولیٰ حسین!

اپ نا حول سی ————— ماری همتہ نے اپ قوی کریئے،
 اپ نی مدد سی ————— ماری مصیبہ نے کشف کریئے،
 اپ نا لطف سی ————— ماری امید نے تمام کریئے،
 لے مارا أحیۃ سی ————— من ملاوی دیئے،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد اپ پر روتھیں،
 لے مارا مولیٰ حسین! میں ہمیشد اپ پر فلاء تھا تو رہیں،
 لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!

قَوْلِهِ مَحْمَدٌ
 إِكْشَفُ بَعْوَنَكَ كُرْبَتِي
 أَسْعَفُ بِلُطْفِكَ بِغَيَّتِي
 وَلَقِنَيْ أَحَبَّتِي
 أَبْكِيَكَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ أَفْدِيَكَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ
 مَوْلَايَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ

۵۱

يَا ابْنَ امَامِنَا الشَّهِيدِ
خَيْرَ رَقِيبٍ وَشَهِيدٍ
قَدْ طَالَ شَوْقُنَا الشَّدِيدِ
إِلَيْكَ، فَارْحَمْ الْعَبِيدِ

أَبْكِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ أَفْدِيْكَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ

لے سید الشہداء حسین نا شہزادہ ہمارا امام!
 اپ خیر حاضر چولنے نگہبان چھو،
 اپ نی طرف ہمارو شوق گنو چھے،
 اپ نا غلامو نے رحمتہ کری دیئے، پرمی یئے،
 کیم کہ
 ہمیں اپ نا باوجی صاحب حسین پر روتی رہیا چھے،
 فداء تھئی رہیا چھے،
 یا حسین! یا حسین!
 پکاری رہیا چھے،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشدہ اپ پر روتورہیں،
 لے مارا مولی حسین! میں ہمیشدہ اپ پر فداء تھاتورہیں،
 لے مارا مولی لے مارا مولی حسین!

اباؤنَ بیت پوری تھئی،^{۶۷}

باونیَ بیت صلوٽ نی بیت چھے،

اہماں خلانے عرض کروں چھوں کر

لے مارا پیلا ناکرنار لے مارا خالق! لے مارا مُوجِد!

تو محمد رسول اللہ پر صلوٽ پڑھے

لے اپ ناصفوٰ - مجد نا صاحبو ائمہ طاهرين پر صلوٽ پڑھے

لے ایجھشل رسول اللہ نا دعاۃ مطلقين او پر صلوٽ پڑھے،

لے مارا مولیٰ حسین! میں ہميشہ اپ پر روتورہیس،

لے مارا مولیٰ حسین! میں ہميشہ اپ پر فداء تھاتورہیس،

لے مارا مولیٰ لے مارا مولیٰ حسین!

اپ منے ہميشہ اپ نا الطاف سی نوازتا رہجو،

اپ پر ہميشہ روؤں چھوں، زلاؤں چھوں،

غرض یجھے کد - اپ خوش تھئی جاڑ،

اپ ناناجی صاحب رسول اللہ خوش تھئی جائے،



صلی علیٰ مُحَمَّدٍ

وَصَفْوَهُ الْمَجَّدِ

كَذَا دُعَاءً أَحَمَّدٍ

يَا خَالِقِي يَا مُوجِدِي

اَبِكِيَّكَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ اَفْدِيَكَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ

مَوْلَايَ مَوْلَايَ الحُسَيْنِ